



PRESS RELEASE

For immediate release

August 01, 2025

SECP Ignites Mutual Fund Transformation Through Strategic Initiatives

Islamabad, August 01, 2025 – The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has taken several strategic initiatives to strengthen Pakistan's mutual funds industry. These measures include the registration of the Mutual Funds Association of Pakistan (MUFAP) as a Self-Regulatory Organization (SRO), the approval of a comprehensive Digital Asset Management Companies (Digital AMC) Framework, and the formation of a committee for the development of Exchange Traded Funds (ETFs) in Pakistan. These steps aim to facilitate market development, enhance investor confidence, improve transparency, and promote financial inclusion.

By being recognized as an SRO, MUFAP will now play a pivotal role in industry development, investor education, and self-regulating the business conduct of the mutual fund sector. MUFAP's expanded mandate includes promoting ethical practices and professional competence within the industry, conducting and sharing research, assisting in the development of industry standards aligned with global best practices, overseeing compliance through inspections, arbitrating disputes, and supporting financial inclusion, investor outreach, and education while implementing measures for investor protection. Additionally, MUFAP will review constitutive documents such as trust deeds and offering documents, undertake standardized industry documentation and reporting, and ultimately lay the groundwork for a more responsive, transparent, and investor-friendly mutual fund ecosystem.

The approval of the Digital AMC Framework will enable technological innovation, broaden market access, and foster industry growth by reducing entry barriers, expanding retail participation, and providing end-to-end digital access to mutual fund investments.

Furthermore, the committee for ETF development has been tasked with reviewing the existing framework and international best practices to recommend reforms aimed at increasing investor participation and eliminating inefficiencies hindering the growth of this segment.

Recently, the SECP hosted a Mutual Funds Industry Focus Group Session, bringing together key stakeholders and industry professionals. The session gathered input on strategic priorities, including expanding infrastructure finance through mutual funds, enhancing liquidity management and governance, and modernizing distribution models. It also addressed structural and cultural barriers to women's financial inclusion and explored the promotion of Systematic Investment Plans (SIPs) as a tool for disciplined, long-term savings. A White Paper summarizing the session's outcomes, along with a roadmap for implementing key recommendations, has been approved by the Commission for circulation.

ایس ای سی پی نے اسٹریٹجک اقدامات کے ذریعے میوچوئل فنڈز میں تبدیلی کا آغاز کر دیا۔

اسلام آباد، 1 اگست: ایس ای سی پی نے پاکستان کی میوچوئل فنڈز انڈسٹری کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات میں شامل ہیں: میوچوئل فنڈز ایسوسی ایشن آف پاکستان (MUFAP) کو ایک خود مختار نگران ادارے (SRO) کے طور پر رجسٹر کرنا، ڈیجیٹل ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز (Digital AMC) کے لیے ایک مکمل فریم ورک کی منظوری دینا، پاکستان میں ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز (ETFs) کی ترقی کے لیے ایک کمیٹی کا قیام۔ ان اقدامات کا مقصد مارکیٹ کی ترقی کو آسان بنانا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانا، شفافیت میں بہتری لانا، اور مالی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔

ایس آر او کے طور پر تسلیم کیے جانے کے بعد، MUFAP اب میوچوئل فنڈز کے شعبے میں صنعت کی ترقی، سرمایہ کاروں کی آگاہی، اور کاروباری طرز عمل کی خود نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ MUFAP کا وسیع کردہ دائرہ کار اب صنعت میں اخلاقی اصولوں اور پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینے، تحقیق کرنا اور اس کا تبادلہ کرنے، عالمی معیار کے مطابق انڈسٹری کے اصول و ضوابط بنانے میں مدد دینے، انسپیکشن کے ذریعے قوانین کی نگرانی کرنے، تنازعات کے حل میں ثالثی کرنے، اور مالی شمولیت، سرمایہ کاروں تک رسائی، اور آگاہی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے اقدامات نافذ کرنے جیسے کاموں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ، MUFAP ٹرسٹ ڈیڈز اور آفرنگ ڈاکومنٹس جیسے بنیادی دستاویزات کا جائزہ لے گا، انڈسٹری کے لیے معیاری دستاویزات اور رپورٹنگ کا نظام اپنائے گا، اور بالآخر ایک ایسا میوچوئل فنڈ نظام قائم کرے گا جو زیادہ مؤثر، شفاف، اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ہو۔

ڈیجیٹل اے ایم سی فریم ورک کی منظوری سے ٹیکنالوجی میں جدت آئے گی، مارکیٹ تک رسائی بڑھے گی، اور صنعت کی ترقی کو فروغ ملے گا۔ یہ فریم ورک داخلے کی رکاوٹیں کم کرے گا، عام سرمایہ کاروں کی شمولیت میں اضافہ کرے گا، اور میوچوئل فنڈز میں سرمایہ کاری کے لیے مکمل طور پر ڈیجیٹل رسائی فراہم کرے گا۔

مزید یہ کہ، ETF کی ترقی کے لیے قائم کردہ کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ موجودہ فریم ورک اور بین الاقوامی بہترین طریقہ کار کا جائزہ لے، اور ایسی اصلاحات کی سفارش کرے جو سرمایہ کاروں کی شمولیت بڑھانے اور اس شعبے کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مددگار ہوں۔

حال ہی میں ایس ای سی پی نے میوچوئل فنڈز انڈسٹری فوکس گروپ سیشن کا انعقاد کیا، جس میں اہم اسٹیک ہولڈرز اور انڈسٹری کے ماہرین نے شرکت کی۔ اس سیشن میں مختلف حکمت عملیوں پر رائے لی گئی، جن میں میوچوئل فنڈز کے ذریعے انفراسٹرکچر فنانس کو بڑھانا، لیکویڈیٹی مینجمنٹ اور گورننس کو بہتر بنانا، اور تقسیم کے طریقہ کار کو جدید بنانا شامل تھا۔ اس کے علاوہ، خواتین کی مالی شمولیت میں حائل ساختی اور ثقافتی رکاوٹوں پر بھی بات کی گئی، اور طویل مدتی اور باقاعدہ بچت کے لیے "Systematic Investment Plans (SIPs)" کے فروغ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس سیشن کے نتائج کا خلاصہ اور اہم سفارشات پر مبنی ایک وائٹ پیپر تیار کیا گیا ہے، جس کی منظوری کمیشن نے اس کی تقسیم کے لیے دی ہے۔